

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 4

گرامر: جملہ اسمیہ (مؤنث)

صفحہ-15، اشارہ-d

G15d

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم
بانی وڈائیٹنگ انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی



www.understandquran.com



[Facebook.com/UnderstandQuran](https://www.facebook.com/UnderstandQuran)



+91 9652 430 971

8897 399 399

سوال: کیا آپ نے گوگل کو ٹر کیا؟

.B نہیں

.A جی ہاں

.D آئندہ کریں گے۔ ان شاء اللہ

.C ضرورت نہیں

اس سبق میں ہم۔۔۔

جملہ اسمیہ

(مؤنث)



عربی گرامر کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

صَرَف

نَحْو

اب ہم بہت آسان انداز میں اس کو سمجھتے ہیں

صَرَف

فعل کے
اصلی حروف

ف ع
ل

الفاظ

فَاعِل، فِعْل،
فَعَلْتُمْ، يَفْعَلُونَ،
اِفْعَال، مَفْعُول--

نَحْو



جب آپ جملے بناتے ہیں تو الفاظ کے آخر میں (ـِ، ـَ، ـً، وَنْ، يَنْ) ہوتے ہیں، یہ مختلف حالات کی بنیاد پر بدلتے ہیں کبھی فاعل تو کبھی مفعول اور کبھی کسی اور وجہ سے۔ یہ سب نحو کے ذریعے معلوم ہوگا۔

اعادہ

جُمْلَة اِسْمِيَّة
(اسم سے شروع ہوتا ہے)

كَبِيرٌ

بڑا ہے

اَلْبَيْتُ

وہ خاص گھر

اعادہ

جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ

(اسم سے شروع ہوتا ہے)

كَبِيرٌ

بڑا ہے

- یہ لفظ خبر دے رہا ہے کہ گھر بڑا ہے۔
- اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔
- اس کے شروع میں ال نہیں ہے۔

الْبَيْتُ

وہ خاص گھر

- جملہ میں یہ پہلا اسم ہے۔
- کیونکہ آپ جانتے ہیں گھر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں "وہ خاص" ہے۔

اعادہ

ترجمہ کیجیے

اللہ بخشنے والا ہے

اللَّهُ غَفُورٌ

وہ خاص گھر بڑا ہے

الْبَيْتُ كَبِيرٌ

وہ خاص مسلم سچا ہے

الْمُسْلِمُ صَادِقٌ

وہ خاص مسلمان سچے ہیں

الْمُسْلِمُونَ صَادِقُونَ

الحمد لله



اس سبق میں ہم سیکھیں گے:

جملہ اسمیہ

(مؤنث)

اب ہم مثالوں کو لیتے ہیں:

مدرسہ بڑا ہے

الْمَدْرَسَةُ كَبِيرَةٌ

مسلم عورت سچی ہے

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ

مؤمنہ نیک ہے۔

الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

منافقہ فاسق ہے۔

الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

نوٹ: مدرسہ عربی زبان میں مؤنث ہے کیونکہ اس لفظ کے اخیر میں گول تا (ة) ہے۔

جمع بنائِيه

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ الْمُسْلِمَاتُ صَادِقَاتٌ

الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتٌ

الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ الْمُنَافِقَاتُ فَاسِقَاتٌ

مذکر جملوں کی مؤنث بنائیے

الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ

الْمُسْلِمُ صَادِقٌ

الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

الْمُؤْمِنُ صَالِحٌ

الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

الْمُنَافِقُ فَاسِقٌ

سبق نمبر 13c میں ہم نے پڑھا کہ ٹوٹی ہوئی جمع واحد مؤنث کے طور پر کام کرتی ہے۔

بُيُوت

بَيْت

مَسَاجِد

مَسْجِد

جِبَال

جَبَل

ترجمہ کیجیے

اس کا TPI یاد رکھیے: انگلیوں کو ملا کر بائیں جانب کرنا
اشارے کرنے سے بات ذہن میں بہتر بیٹھتی ہے۔

مسجدیں پرانی ہیں

الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ

گھر نئے ہیں

الْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ

پہاڑ بڑے ہیں

الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

جمع بنائے

TPI کے اشاروں کے ساتھ پریکٹس کیجیے!

الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ

الْمَسْجِدُ قَدِيمٌ

الْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ

الْبَيْتُ جَدِيدٌ

الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

الْجَبَلُ كَبِيرٌ

قرآنی مثالیں

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- کیا تجھے بھی چھپا لینے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے (1) اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے (2) (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے (3) وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے (4) اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا (5)
- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۱
وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۲
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۳
تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۴
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۵

قرآنی مثالیں

بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور (آسودہ
حال) ہوں گے (8) اپنی کوشش پر خوش ہوں
گے (9) بلند و بالا جنتوں میں ہوں
گے (10) جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں
گے (11)

۸ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

۹ لِّسَعِيهَا رَاضِيَةٌ

۱۰ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

۱۱ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ

سوال :- ”الْمُسْلِمَاتُ صَادِقَاتٌ“ کس کی مثال ہے؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A زبانی جملے

B فعل اور فاعل کی

C جملہ اسمیہ کی

D مؤنث جمع کی

سوال :- ”الْمُسْلِمَاتُ صَادِقَاتٌ“ کس کی مثال ہے؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A زبانی جملے

B فعل اور فاعل کی

C جملہ اسمیہ کی

D مؤنث جمع کی

سوال :- الْمُسْلِمَةُ مذ کر ہے یا مؤنث؟

A جمع

B شنیہ

C مذکر

D مؤنث

سوال :- الْمُسْلِمَةُ مذ کر ہے یا مؤنث؟

A جمع

B ثنئیہ

C مذکر

D مؤنث

سوال :- ترجمہ کیجیے : الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ

A مسلم عورت سچی ہے

B مسلمان سچا ہے

C مسلم عورتیں سچی ہیں

D مومن عورت سچی ہے

سوال :- ترجمہ کیجیے : الْمُسْلِمَةُ صَادِقَةٌ

A مسلم عورت سچی ہے

B مسلمان سچا ہے

C مسلم عورتیں سچی ہیں

D مومن عورت سچی ہے

سوال :- ترجمہ کیجیے : الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ

A مسجد پرانی ہے

B مسجدیں پرانی ہیں

C گھر نیے ہیں

D پہاڑ بڑے ہیں

سوال :- ترجمہ کیجیے : الْمَسَاجِدُ قَدِيمَةٌ

A مسجد پرانی ہے

B مسجدیں پرانی ہیں

C گھر نیے ہیں

D پہاڑ بڑے ہیں

سوال :- عربی میں ترجمہ کیجیے : " منافق عورتیں نافرمان ہیں "

A الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

B الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتُ

C الْمُنَافِقَاتُ فَاسِقَاتُ

D الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

سوال :- عربی میں ترجمہ کیجیے : " منافق عورتیں نافرمان ہیں "

A الْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

B الْمُؤْمِنَاتُ صَالِحَاتٌ

C الْمُنَافِقَاتُ فَاسِقَاتٌ

D الْمُنَافِقَةُ فَاسِقَةٌ

سوال :- مَوْنَتْ بَتَايِيْ! اَلْمُوْمِنُ صَالِحٌ
ايك سے زائد جوابات ديجيے:

A اَلْمُوْمِنَةُ صَالِحَةٌ

B اَلْمُوْمِنُ صَالِحَةٌ

C اَلْمُوْمِنَةُ صَالِحٌ

D اَلْمُوْمِنَةُ صَالِحَاتٌ

سوال :- مَوْنَتْ بَتَايَءِ! اَلْمُؤْمِنُ صَالِحٌ
ايك سے زائد جوابات ديجيے:

A اَلْمُؤْمِنَةُ صَالِحَةٌ

B اَلْمُؤْمِنُ صَالِحَةٌ

C اَلْمُؤْمِنَةُ صَالِحٌ

D اَلْمُؤْمِنَةُ صَالِحَاتٌ

سوال :- جمع بتایے ! اَلْبَيْتُ جَدِيدٌ

A اَلْبَيْتُ جَدِيدٌ

B اَلْبَيْتَانِ جَدِيدٌ

C اَلْبُيُوتُ جَدِيدٌ

D اَلْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ

سوال :- جمع بتائیے ! اَلْبَيْتُ جَدِيدٌ

A اَلْبَيْتُ جَدِيدٌ

B اَلْبَيْتَانِ جَدِيدٌ

C اَلْبُيُوتُ جَدِيدٌ

D اَلْبُيُوتُ جَدِيدَةٌ

سوال :- هل الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ؟

A نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

B نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

C نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرٌ

D نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرٌ

سوال :- هل الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ؟

A نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

B نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرَةٌ

C نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرٌ

D نَعَمْ، الْجِبَالُ كَبِيرٌ

سوال :- ترجمہ کیجیے : لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

A تاکہ ہم جان لیں سالوں کی گنتی

B تاکہ میں جان لوں سالوں کی گنتی

C تاکہ وہ جان لے سالوں کی گنتی

D تاکہ تم سب جان لو سالوں کی گنتی

سوال :- ترجمہ کیجیے : لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

A تاکہ ہم جان لیں سالوں کی گنتی

B تاکہ میں جان لوں سالوں کی گنتی

C تاکہ وہ جان لے سالوں کی گنتی

D تاکہ تم سب جان لو سالوں کی گنتی

سوال :- ترجمہ کیجیے : قُلُوبُنَا غُلْفٌ

A اس کے دل پر غلاف ہے

B ان کے دلوں پر غلاف پر

C ہمارے دلوں پر غلاف ہیں

D تمہارے دلوں پر غلاف ہے

سوال :- ترجمہ کیجیے : قُلُوبُنَا غُلْفٌ

A اس کے دل پر غلاف ہے

B ان کے دلوں پر غلاف پر

C ہمارے دلوں پر غلاف ہیں

D تمہارے دلوں پر غلاف ہے



سات ہوم ورک

◀ دو تلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

◀ دو پڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

◀ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

◀ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

◀ اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن
سیکھنے میں ہماری مدد فرما!



ویدئوز سے پڑھائیے!

اگر آپ ویدئو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویدئو سے سیکھیے۔

جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویدئو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔



ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

www.understandquran.com



بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! <

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! <

www.understandquran.com



ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

www.understandquran.com

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.



اے اللہ ہمیں
• قرآن پڑھنے،
• سمجھنے،
• غور کرنے،
• عمل کرنے،
• پھیلانے،
• اور یاد کرنے کی
• توفیق دے۔

قرآني مثالين

Has there reached you the report of the Overwhelming [event]? (1)

[Some] **faces**, that Day, will be **humbled**, (2)

Working [hard] and **exhausted**.

(3) They will [**enter to**] burn in an intensely hot Fire.

(4) **They will be given drink** from a boiling spring. (5)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۝٥

قرآني مثالين

[Other] **faces**, that Day, will show pleasure. (8)

With **their** effort [they are] **satisfied** (9)

In an elevated garden, (10)

In it they will not **hear** any unsuitable speech. (11)

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾